



کووڈ-19 کے ردعمل میں برامپٹن ٹرانزٹ سروس کے ٹرمینلز پر موجود کسٹمر سروس کاؤنٹرز کو مورخہ 27 اپریل سے بند کیا جا رہا ہے

برامپٹن، آن (23 اپریل 2020) - کووڈ-19 کے دوران برامپٹن ٹرانزٹ کی جانب سے اپنی کمیونٹی کو محفوظ طریقے سے سروس کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ٹرانزٹ ٹرمینلز (برامیلا ٹرمینل، برامپٹن گیٹ وے ٹرمینل، ڈاؤن ٹاؤن ٹرمینل) پر موجود کسٹمر کاؤنٹرز کو مورخہ 27 اپریل سے تاحکم ثانی بند کیا جا رہا ہے۔ تاہم، واش روم کی سہولت تک رسائی کے لیے عمارتیں کھلی رہیں گی۔ اس کے علاوہ، ٹریٹی کامن ٹرمینل کی عمارت تاحکم ثانی بند رہے گی۔

حالیہ ہفتوں کے دوران کسٹمر سروس کاؤنٹرز پر نسبتاً کم رش دیکھنے میں آئی ہے جس کی بڑی وجہ پبلک ٹرانسپورٹ میں لائی جانے والی تبدیلیاں ہیں مثلاً سروس کی کثرت میں تبدیلیاں اور کرایوں کا مفت ہو جانا۔

ایسے مسافر جن کو اپنے PRESTO کارڈ لوڈ کرنے ہوں، وہ آن لائن طور پر بذریعہ www.PRESTOcard.ca لوڈ کر سکتے ہیں یا برامیلا ٹرمینل اور ڈاؤن ٹاؤن ٹرمینل میں موجود PRESTO کی ٹکٹ وینڈنگ مشینوں کے ذریعے بھی لوڈ کر سکتے ہیں۔ شیڈول اور ٹرپ کی منصوبہ بندی کے لیے مسافر 905.874.2999 پر برامپٹن ٹرانزٹ کے ساتھ بذریعہ کنٹیکٹ سنٹر رابطہ کر سکتے ہیں۔

کرونا وائرس (کووڈ-19) کے لیے حفاظتی اقدامات

صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی اضافہ شدہ کارروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے تمام ٹھوس سطحوں، آپریٹر کے کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو ہر 48 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے۔ زیادہ تر بسوں کو موجودہ طور پر ہر 24 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سہولت گاہوں اور ٹرمینلز کی ٹھوس سطحوں کی صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کا کام روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ مسافروں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ سفر کے لیے اپنی ذاتی جراثیم کش اشیاء مثلاً ہینڈ سینٹائزر یا تولیے وغیرہ اپنے ساتھ لائیں اور اپنے ہاتھوں کو کثرت سے دھوئیں۔

خطرے پر گہری نظر رکھنے کے لیے سٹی آف برامپٹن اپنے شراکت داروں پیل پبلک ہیلتھ اور برامپٹن ایمرجینسی منیجمنٹ آفس کے ساتھ قریبی طور پر اور مل جل کر کام کر رہا ہے۔ باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے www.brampton.ca/covid19 ملاحظہ کریں اور سروس اپ ڈیٹس کے لیے www.bramptontransit.com پر جائیں یا Twitter پر [@bramptontransit](https://twitter.com/bramptontransit) کو فالو کریں۔ کسی قسم کے سوالات برامپٹن ٹرانزٹ کے کنٹیکٹ سنٹر سے 905.874.2999 پر پوچھے جا سکتے ہیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca